



سوال

(87) قبر میں منکر نکیر کے سوال کے وقت رسول اللہ ﷺ کا مردے کے پاس تشریف لانا؟

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

قبر میں منکر نکیر کے سوال کے وقت جناب رسول اللہ ﷺ کا مردے کے پاس تشریف لانا ثابت ہے یا نہیں؟ اور در صورتے کہ ثابت نہ ہو، تو جو شخص ایسا اعتقاد رکھے، از روئے شریعت کے اس پر کیا حکم ہوگا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

وقت سوال منکر نکیر کے حضرت ﷺ کا تشریف لانا کسی حدیث یا آثار سے ثابت نہیں، اور اعتقاد رکھنے والا اس کا گمراہ ہے۔ حررہ ابو الطیب محمد شمس الحق عفی عنہ۔ (سید محمد نذیر حسین) (ابو الطیب محمد شمس الحق: ۱۲۹۵)

هذا ما عندي والله اعلم بالصواب

فتاویٰ علمائے حدیث

جلد 09 ص 195

محدث فتویٰ